



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ۚ أَتَيْ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ

پہنچا (ہی چاہتا ہے) حکم اللہ کا، سو اسکی شتابی (جلدی) مت کرو۔

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ

وہ ایک (پاک) ہے، اور اوپر (بالاتر) ہے ان کے شریک بتانے سے۔

يُنَزِّلُ الْمَلِئَكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

اتارتا ہے فرشتے بھید لے کر اپنے حکم سے، جس پر چاہے اپنے بندوں میں،

أَنْ أَنْذِرُوا إِلَهًا إِلَّا إِلَهٌ لَّا إِلَهٌ إِلَّا أَنَا فَإِنَّ قَوْنِ

کہ خبر پہنچادو کہ کسی کی بندگی نہیں سو امیرے، سو مجھ سے ڈرو۔

خَلَقَ اللَّهُمَّ مَا بِالْأَرْضِ بِالْحَقِّ

بنائے (پیدا کئے) آسمان اور زمین ٹھیک (برحق)۔

.1

.2

.3

تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

وَهَا وَپر (بالاتر) ہے ان کے شریک بتانے سے۔

خَلَقَ الِإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

بنایا آدمی ایک بُوند سے، پھر تبھی ہو گیا جھگڑتا بولتا۔

وَالآنَعُمَ خَلَقَهَا

اور چوپائے بنادیئے تم کو

لَكُمْ فِيهَا دُفْعٌ وَمَنَفْعٌ وَمِنْهَا أَكْلُونَ

ان میں جڑاول (سردیوں کا سامان) ہے اور کتنے فائدے، اور بعضوں کو (تم) کھاتے ہو۔

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيُّحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

اور تم کو ان سے رونق ہے، جب شام کو پھیر لاتے ہو اور جب چراتے ہو۔

وَتَحْمِلُ أثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُ أَبْلَغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ

اور اٹھائے چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان توڑ کر۔

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

بیشک تمہارا رب بڑا شفقت والا مہربان ہے۔

وَالْجَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرَكُوبُهَا وَزِينَةً

اور گھوڑے بنائے اور خچریں اور گدھے، کہ ان پر سوار ہو اور رونق (ہے)۔

.4

.5

.6

.7

.8

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اور بناتا (پیدا فرماتا) ہے جو تم نہیں جانتے۔

وَعَلَى اللَّهِ قُصْدُ الْسَّبِيلٍ وَمِنْهَا جَاءَرُ^ج

اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور کوئی راہ کج (ٹیڑھی) بھی ہے۔

وَلَوْ شَاءَ لَهُ دَكْمٌ أَجْمَعِينَ

اور وہ چاہے تو راہ (ہدایت) دے تم سب کو۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً^ص

وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی،

لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

تمہارا اس سے پینا ہے، اور اس سے درخت (أَكْتَ) ہیں جن میں (جانور) چراتے ہو۔

يُنِيبُ لَكُمْ بِهِ الْزَّرْعُ وَالْزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبِ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ^ط

اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے بھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جودھیاں (غورو فکر) کرتے ہیں۔

وَسَخَرَ لَكُمْ أَلَيْلٌ وَالنَّهَارٌ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ^ص

اور کام لگائے تمہارے رات اور دن اور سورج اور چاند۔

.9

.10

.11

.12

وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

اور تارے (بھی) کام میں لگے ہیں اسکے حکم سے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو بوجھ (عقل) رکھتے ہیں۔

وَمَا ذَرَ أَلْكُمْ فِي الْأَرْضِ فُخْتَلِفًا أَلَوْلَاهُ

جو بکھیرا ہے تمہارے واسطے زمین میں کئی رنگ کا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَرُونَ

اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيرًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا

اور وہی ہے جس نے کام لگایا دریا، کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ،

اور نکالو اس سے گہنا (سامان زینت) جو (تم) پہنتے ہو۔

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاطِئَهُ وَلَتَبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور دیکھئے تو کشتیاں پھاڑتی چلتی اس میں،

اور (یہ) اس واسطے (بھی) کہ تلاش کرو (پنا معاش) اسکے فضل سے، اور شاید احسان مانو۔

وَأَنْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

اور ڈالے (رکھ دیئے) زمین میں بوجھ (لنگر پہاڑوں کے)، کہ کبھی جھک (نہ) پڑے تم کو لے کر،

.13

.14

.15

وَأَنْهَرَّاً وَسِلَالَ لَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ

اور ندیاں بنائیں اور راہیں شاید تم راہ پاؤ۔

ج

وَعَلَمَتٍ

.16

اور بنائے پتے (نشانیاں)۔

وَبِإِنَّجُمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

اور تارے سے (بھی لوگ) راہ پاتے ہیں۔

أَنَّمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

بھلا جو پیدا کرے، برابر ہے اسکے جو کچھ نہ پیدا کرے، کیا تم سوچ (غور) نہیں کرتے؟

وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

.17

اور اگر گنو نعمتیں اللہ کی، نہ پورا کر (گن) سکوان کو۔

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرِونَ وَمَا تُعْلَمُونَ

.19

اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو، اور جو کھولتے (ظاہر کرتے) ہو۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ

.20

اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کچھ پیدا نہیں کرتے اور آپ پیدا ہوتے ہیں۔

.21

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاٰ إِنَّمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ

مُرُدے ہیں، جن میں جی نہیں (زندگی سے عاری)۔ اور خبر نہیں رکھتے کب (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے۔

.22

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

معبد تھمارا، معبد ہے اکیلا۔

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُّوْبُهُمْ مُنْكَرٌ لَهُمْ مُسْتَكِبُرُونَ

سوجوں قین نہیں رکھتے پچھلے دن (آخرت) کی زندگی کا، اور انکے دل نہیں مانتے، اور وہ مغرور ہیں۔

.23

لَا جَرْمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ

ٹھیک بات ہے، کہ اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو جانتے ہیں۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكِبِرِينَ

بیشک وہ نہیں چاہتا غرور کرنے والوں کو۔

.24

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَآأَنَزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِبِرُ الْأَوَّلِينَ

اور جب کہیئے ان کو، کیا آثارا (نازل کیا) ہے تمہارے رب نے؟ کہیں نقلیں ہیں پہلوں کی۔

.25

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ أَوْزَأِرَ الَّذِينَ يُضْلُلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

کہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے اور کچھ بوجھ انکے جن کو بہکاتے ہیں بے تحقیق (بغیر علم کے)۔

أَلَا سَاءَ مَا يَزِّمُونَ

ستات ہے؟ بُرا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں۔

.26

قَدْ مَكَرَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

دغا بازی کر پکے ہیں اُن سے اگلے (پہلے بھی)، پھر پہنچا اللہ ان کی چنانی (مکر کی عمارت) پر نیو (بنیار) سے،

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الْسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

پھر گر پڑی اُن پر (مکر کی) چھت اُپر سے، اور آیا اُن پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے تھے۔

ج
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْرِيْهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ اللَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَقِّقُونَ فِيهِمْ

پھر دن قیامت کے رسوا کرے گا ان کو، اور کہے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ جن پر ضد کرتے تھے۔

قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْنَى الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَفَرِينَ

بولیں گے جن کو خبر ملی تھی، بیشک رسوانی آج کے دن اور برائی منکروں پر ہے۔

ص
الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمُلِئَكَةُ طَالِبِيْنَ أَنْفُسِهِمْ

جن کو جان (روح قبض کر) لیتے ہیں فرشتے (اس حالت میں کہ) وہ را کر رہے ہیں اپنے حق میں۔

ج
فَأَلْقُوا الْسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ

تب آکر کریں گے اطاعت، کہ ہم تو کرتے نہ تھے کچھ برائی۔

بَلِّي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

کیوں نہیں؟ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے۔

ص
فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِيْنَ فِيهَا

سو پیٹھو (گھس جاؤ) دروازوں میں دوزخ کے، رہا کرو اس میں۔

.27

.28

فَلِئِنْسَ مَثُوَى الْمُفْتَكِبِينَ

سو کیا براٹھ کانا ہے غرور کرنے والوں کا۔

وَقَيْلَ لِلَّذِينَ أَتَقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ

اور کہا پر ہیز گاروں کو، کیا اُتارا (نازل کیا) تمہارے رب نے؟

قَالُوا خَيْرًا

بولے نیک بات (بہتر کلام)۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْأَنْيَا حَسَنَةٌ

جنہوں نے بھائی کی اس دنیا میں، ان کو (اس دنیا میں) بھائی ہے۔

وَلَدَ امْ الْآخِرَةِ خَيْرٌ

اور پچھلا (آخرت کا) گھر بہتر ہے۔

وَلِنِعْمَ دَائِرُ الْمُفْتَقِينَ

اور کیا خوب گھر ہے پر ہیز گاروں کا۔

جَنَّتُ عَدُنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

باغ ہیں رہنے کے، جن میں وہ جائیں گے، بہتی ہیں اُنکے نیچے نہریں، ان کو وہاں ہے جو چاہیں۔

كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُفْتَقِينَ

ایسا بدله دے گا اللہ پر ہیز گاروں کو۔

.30

.31

.32

الَّذِينَ تَكُوْنُ فِيهِمُ الْمُلْكُ كُلُّهُ طَبِيعِيْنَ يَقُولُونَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^٨

جن کی جان لیتے ہیں فرشتے، اور وہ سترے (گفر اور شرک سے پاک ہیں) ہیں، ان کو کہتے ہیں
سلامتی ہے تم پر، جاؤ بہشت میں، بدله اس کا جو تم کرتے تھے۔

.33

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمُلْكُ كُلُّهُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ

اب کچھ راہ دیکھتے ہیں مگر یہی، کہ آئیں ان پر فرشتے، یا پہنچے حکم تیرے رب کا۔

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اسی طرح کیا ان سے اگلوں (پہلوں) نے،

وَمَا أَظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلِكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور اللہ نے ظلم نہ کیا ان پر، لیکن اپنا برا کرتے رہے۔

.34

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ

پھر پڑے ان پر اُن کے بُرے کام، اور اُن پڑاں پر جو ٹھٹھا (وہ عذاب جس کا مذاق) کرتے تھے۔

.35

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَلْوَشَاءَ اللَّهُمَا عَبْدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

اور بولے شریک پکڑنے والے، اگر چاہتا اللہ، نہ پوچھتے ہم اس کے سوا کوئی چیز۔

نَحْنُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِنْ دُونِنِي مِنْ شَيْءٍ

اور نہ ہمارے ماں باپ، اور نہ حرام ٹھہر لیتے ہم اس کے سوا کوئی چیز۔

ج

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اسی طرح کیا ان سے الگوں نے۔

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

سور سولوں پر ذمہ نہیں مگر پہنچادینا کھول کر۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنَّ أَعْبُدُوا أَللَّهَ وَأَجْتَبِنُّوْا أَللَّطْعُونَ^ص

.36

اور ہم نے اٹھائے (صیحہ) ہیں ہر امت میں رسول، کہ بندگی کرو اللہ کی، اور بچو ہڑ دنے (سرکش) سے۔

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَمَةُ

سو کسی کو راہ (ہدایت) دی اللہ نے، اور کسی پر ثابت (سلط) ہوئی مگر اسی۔

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

سو (چلو) پھروز میں میں تو دیکھو، کیسا ہوا آخر (انجام) جھٹلانے والوں کا۔

إِن تَحْرِصُ عَلَى هُدَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهِدِي مَنْ يُخْلِلُ

.37

اگر تو للچائے ان کو راہ پر لانے کو، سوال اللہ راہ نہیں دیتا جس کو بچلاتا (بھٹکاتا) ہے،

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصْرٍ يَنْ

اور کوئی نہیں ان کے مددگار۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمْوَثُ^{لَا}

.38

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، پچ کی (ضدی) قسمیں، کہ نہ اٹھائے گا اللہ جو کوئی مر جائے۔

بَلِّي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

کیوں نہیں؟ وعدہ ہو چکا ہے اس پر ثابت (لازم)، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

لَيَقِنُّ لَهُمُ الَّذِي يَعْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا أَكَذِبِينَ .39

(دوبارہ اٹھانا) اس واسطے کے کھول دی ان پر، جس بات میں جھگڑتے ہیں،

اور تا (کہ) معلوم کریں منکر کہ وہ جھوٹے تھے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا الشَّيْءُ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .40

ہمارا کہنا کسی چیز کو، جب ہم نے اس کو چاہا، یہی ہے، کہ کہیں اس کو، ہو، تو وہ ہو جائے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا أُنْبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً .41

اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے، بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا، البتہ ان کو ٹھکانادیں گے دنیا میں اچھا،

وَلَا جُرُّ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ

اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے،

لَوْ كَانُوا أَيَعْلَمُونَ

اگر ان کو معلوم ہوتا۔

الَّذِينَ صَدَّقُوا وَأَعْلَمَ بِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .42

جو ثابت (قدم) رہے، اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔

وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قُرْبَةٍ إِلَّا بِجَاهٍ لَّوْحِ الْيَمِّ

اور تجھ سے پہلے مجھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجے تھے ان کی طرف،

فَسَلُو أَهْلَ الْذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

پوچھو یاد رکھنے والوں سے، اگر تم کو معلوم نہیں۔

بِالْبِيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ

بھیجے تھے نشانیاں لے (دے) کر اور ورق (کتاب)۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

اور تجھ کو اتاری ہم نے یہ یادداشت، کہ تو کھول (کر بیان کر) لوگوں پاس، جو اُتر (نازل ہوا) ان کی طرف،

اور شاید وہ دھیان (غور و فکر) کریں۔

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا أُلُلَّيَّاتِ

سو کیانڈر ہوئے ہیں، جو بُرے داؤ (چالبازیاں) کرتے ہیں،

أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

کہ دھنسادے اللہ ان کو زمین میں، یا پہنچے ان کو عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں۔

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيْهِمْ

یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے،

فَمَا هُم بِمُعْجِزٍ يَعْلَمُونَ

سو وہ نہیں تھکانے (عاجز کرنے) والے (اللہ کو)۔

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَحْوُفٍ

یا پکڑ لے اُن کو ڈرانے کر (خوف اور دہشت سے)۔

فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

سو تمہارا رب بڑا زم ہے مہربان۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

کیا نہیں دیکھتے؟ جو اللہ نے بنائی ہے کوئی چیز،

يَتَفَقَّيُّ أَظْلَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَاءِ لِسُجْدَةِ اللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ

ڈھلتی ہیں چھائیں (سایے) انکے داہنے سے اور بائیں سے، سجدہ کرتے اللہ کو، اور وہ (سب) عاجزی میں ہیں۔

وَإِلَهٖ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَآبَةٍ وَالْمُلِئَكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكِبُونَ

اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جوز میں میں ہے، (ہر) کوئی جانور اور فرشتے (بھی)،

اور وہ بڑائی (تکبر) نہیں کرتے۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ

ڈر کھتے ہیں اپنے رب کا اوپر سے (جو بالادست ہے)، اور کرتے ہیں (وہی) جو حکم پاتے ہیں۔ (سجدہ)

.47

.48

.49

.50

.51

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَنْخُذُوا إِلَهَيْنِ أَثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّمَا يَقُولُونَ^ص

اور کہا اللہ نے، نہ پکڑو معبود دو۔ وہ معبود ایک ہے۔ سو مجھی سے ڈرو۔

.52

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْدِينُ وَاصِبَّا

اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کا انصاف ہے۔

أَفَغَيْرُ اللَّهِ تَتَّقُونَ

سو کیا اللہ کے سوا کسی سے خطرہ رکھتے ہو؟

.53

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ^ص

اور جو تمہارے پاس ہے کوئی نعمت، سو اللہ کی طرف سے،

ثُمَّ إِذَا مَسَكْمُ الْفُرْرَقَ إِلَيْهِ تَجْرُونَ

پھر جب لگتی ہے تم کو سختی، تو اسی کی طرف چلاتے ہو۔

.54

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الْفُرْرَقَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّيهِمْ يُشْرِكُونَ

پھر جب کھول (ڈور کر) دے سختی (نکلیف) تم سے،

تب ہی ایک فرقہ تم میں اپنے رب کے ساتھ لگتے ہیں شریک بتانے۔

.55

لِيَكُفُرُوا بِهِمَا أَتَيْنَاهُمْ

تا (ک) منکر ہو جائیں اس چیز سے جو ہم نے دی،

فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

سوبرت (عیش کر) لو، آخر معلوم کرو گے۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا لِمَنْ أَرَزَقْنَاهُمْ

.56 اور ٹھہراتے ہیں ایسوں کو جتنی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ ہماری دی روزی میں سے۔

تَأْلُلَهُ لِتُسْكُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

قسم اللہ کی! تم سے پوچھنا ہے جو جھوٹ باندھتے تھے۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَتَتِ سُبْكَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

.57 اور ٹھہراتے ہیں اللہ کو بیٹیاں، (حالانکہ) وہ اس لاکن نہیں (پاک ہے ان کمزوریوں سے)،

اور آپ کو جو دل چاہے (بیٹے)۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْشَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

اور جب خوشخبری ملے ایسے کسی کو بیٹی کی، سارے دن رہے اس کامنہ سیاہ، اور جی میں گھٹ (غم کھاتا) رہا۔

يَتَوَاءِلُ مِنْ أُلُقُومٍ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ

.59 چھپتا پھرے لوگوں سے، مارے برائی اس خوشخبری کے جو سنی۔

أَيْمُسِكُهُ عَلَىٰ هُوَنِ أَمْ يَدْسُهُ فِي الْتُّرَابِ

اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کر، اس کو داب (دبا) دے مٹی میں۔

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

ستا ہے؟ بُری چکوتی (فیصلہ) کرتے ہیں۔

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثُلُ الْسَّوْءِ وَلِلَّهِ أُمْثُلُ الْأَعْلَىٰ

.60

جو نہیں مانتے پچھلے (قیامت کے) دن کو، انہیں پر بری کہاوت ہے، اور اللہ کی کہاوت سب سے اوپر۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔

وَلَوْ يُؤْخِذُ اللَّهُ أَنَّاسٌ بِظُلْمِهِمْ مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ

.61

اور اگر کپڑے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر، نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا،

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّىٰ

لیکن ڈھیل دیتا ہے اُن کو، ایک وعدہ ٹھہرے (مقرر شدہ مدت) تک۔

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

پھر جب پہنچا اُن کا وعدہ، نہ دیر کریں گے ایک گھڑی نہ جلدی۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرْهُونَ

.62

اور کرتے ہیں (تجویزوہ امور) اللہ کا (کے لیے) جو جی نہ چاہے (اپنے لیے ناپسند کریں)،

وَتَصِفُ الْسِّتْهُمُ الْكَذِبَ أَنَّهُمْ الْحُسْنَىٰ

اور بتاتی (بولتی) ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، کہ ان کو خوبی (بھلائی) ہے آپ ہی۔

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ أُنَّا وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ

ثابت (لازم) ہوا ان کو آگ ہے، اور وہ بڑھائے (پہلے ڈالے) جاتے ہیں۔

.63
تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْأَمِّ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ

قسم اللہ کی! ہم نے رسول بھیجے کتنے فرقوں (قوموں) میں تجوہ سے پہلے،

پھر سنوارے انکے آگے شیطان نے انکے کام،

فَهُوَ وَلِيَّهُمُ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابُ الْلِّيمِ

سودہی رفیق ان کا ہے آج، اور ان کو دکھ کی مار ہے۔

.64
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابٌ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوَمِّنُونَ

اور ہم نے اُتاری تجوہ پر کتاب اسی واسطے کہ کھول سنا ہے ان کو، جس میں جھگٹر ہے ہیں،

اور سوچھانے (ہدایت) کو، اور مہر (رحمت) کو ان لوگوں پر جو مانتے (مومن) ہیں۔

.65
وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا إِنَّمَا فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس سے جلایا (زندہ کیا) زمین کو اس کے مرنے پیچے،

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

اس میں پتے (نشانیاں) ہیں ان لوگوں کو جو سنتے ہیں۔

.66
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْجُوِ لَعِبْرَةٌ

اور تم کو چوپا یوں میں بوجھ (سبق) کی جگہ ہے۔

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَّا خَالِصًا سَآءِغًا لِلشَّرِّبِينَ

پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے، گوبر اور لہو کے نقش میں سے دودھ سترہ،
(جو) رچتا (خوشگوار ہے) پینے والوں کو۔

وَمِنْ شَمَرَاتِ الْنَّجِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

اور میوؤں سے کھجور کے اور انگور کے، بناتے ہو اس سے نشہ، اور روزی خاصی۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(پیش) اس میں پتہ (نشانی) ہے ان لوگوں کو جو بوجھتے (عقل سے کام لیتے) ہیں۔

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ أَتَخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

اور حکم بھیجا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنالے پھاڑوں میں گھر، اور درختوں میں،
اور (ان بیلوں پر) جہاں چھتریاں ڈالتے ہیں۔

ج
ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الْشَّمَرَاتِ فَأَسْلَكِي سُبْلَ رَبِّكِ ذُلْلًا

پھر کھاہر طرح کے میوؤں سے، پھر چل راہوں میں اپنے رب کی صاف۔

ج
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ لَّخْتِلُفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ

پڑی ہیں نکلتی، ان کے پیٹ میں سے، پینے کی چیز، جس کے کئی رنگ ہیں،
اس میں آزار (مرض) چنگے ہوتے ہیں لوگوں کے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

اس میں پتہ (نشانی) ہے ان لوگوں کو، جو دھیان (غور و فکر) کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّنُكُمْ

اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو موت دیتا ہے،

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا
اور کوئی تم میں پہنچتا ہے تکمیل عمر کو، کہ سمجھ لے پچھے کچھ نہ سمجھنے لگ۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

(یقیناً) اللہ سب خبر رکھتا ہے قدرت والا۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اور اللہ نے بڑائی (فضیلت) دی تم میں ایک کو ایک سے روزی کی۔

فَمَا أَلَّذِينَ فُضِّلُوا أَبْرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

جن کو بڑائی (فضیلت) دی،

نہیں پہنچاتے اپنی روزی ان کو، جوان کے ہاتھ کامال (غلام) ہیں، کہ وہ سب اس میں برابر ہیں۔

أَفَيْنِعْمَةُ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

کیا اللہ کے فضل سے منکر ہیں۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا

اور اللہ نے بنادیں تم کو، تمہارے قسم (جنس) سے عورتیں،

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَّةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

اور دیئے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے، اور کھانے کو دیں تم کو سترہی چیزیں۔

أَفِي الْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُّرُونَ
سو کیا جھوٹی بات مانتے ہیں؟ اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے۔

.73

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا
اور پوچھتے ہیں اللہ کے (کو چھوڑ کر) ایسou کو، کہ مختار نہیں ان کی روزی کے آسمان اور زمین سے کچھ،

وَلَا يَسْتَطِيغُونَ

اور نہ مقدور (قدرت) رکھتے ہیں۔

.74

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

سو مت بٹھاؤ اللہ پر کہا و تین۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

.75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

اللہ نے بتائی ایک کہاوت،

عَبْدًا أَمْلُوْكًا لَا يَقْدِيرُ عَلَى شَيْءٍ

ایک بندہ پر ایام (غلام دوسرے کا)، نہیں مقدور (اختیار) رکھتا کسی چیز پر،

وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا

اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے خاصی روزی، سودہ خرچ کرتا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے۔

ج

هَلْ يَسْتَوْنَ

کہیں برابر ہوتے ہیں؟

ج

الْحَمْدُ لِلَّهِ

سب تعریف اللہ کو ہے،

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

پروہ لوگ نہیں جانتے۔

.76

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

اور بتائی اللہ نے ایک مثال،

رَّجُلٍ يَأْتِي إِلَيْهِ مُؤْلِمًا مَعَهُ كَلْبٌ عَلَى شَنِيعٍ وَهُوَ كَلْبٌ عَلَى مَوْلَهُ أَيْنَمَا يُوْجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ

دو مرد ہیں، ایک گونگا کچھ کام نہیں کر سکتا، اور وہ بوجھ ہے اپنے صاحب پر، جس طرف اس کو بھیجے،

کچھ بھلانے کر لائے۔

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

کہیں برابر ہے وہ اور ایک شخص، جو حکم کرتا ہے انصاف پر اور ہے سید گھر را پر۔

.77

وَلِلَّهِ غَيْبُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اللہ پاس ہیں بھید آسمان اور زمین کے۔

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلْمَحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبٌ

اور قیامت کا کام ویسا ہے جیسے لپک نگاہ کی، یا اس سے قریب۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور (بیشک) اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطْوَنِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

اور اللہ نے تم کو نکالا م کے پیٹ سے، تم کچھ نہ جانتے تھے،

وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور دیسے تم کو کان اور آنکھیں اور دل، شاید تم احسان مانو۔

أَلَمْ يَرُدُّ إِلَى الظَّيْرِ مُسَخَّرًا تِيْجَوِيْسَمَا إِمَامِسُكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

کیا نہیں دیکھتے اڑتے جانور؟ حکم کے باندھے، آسمان کی ہوا میں، کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوا اللہ کے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

اس میں پتے (نشانیاں) ہیں ان لوگوں کو، جو یقین لاتے ہیں۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

اور اللہ نے بنادیے تم کو تمہارے گھر بنے (سکون) کی جگہ،

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَمِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ

اور بنادیے تم کو چوپا یوں کی کھال سے (بھی) ڈیرے (گھر)،

جو ہلکے لگتے ہیں تم کو جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں،

.78

.79

.80

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَّنَا وَمَتَّعَ إِلَيْهِ حِينٍ

اور اُن کی اُون سے اور ببریوں (پشم) سے اور بالوں سے (بنائے تمہارے لئے) کتنے اسباب،
اور برتنے (استعمال) کی چیز ایک (مقررہ) وقت تک۔

.81
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ طَلَاقًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْثَرًا

اور اللہ نے بنادیں تم کو اپنی بنائی چیزوں کی چھائیں (سائے)،
اور بنادیں تم کو پہاڑوں میں چھپنے کی جائیں (پناہ گاہیں)،
وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيهِكُمْ أَلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيهِكُمْ بَأْسَكُمْ
اور بنادیئے تم کو گرتے (لباس) جو چاؤ ہیں گرمی کا، اور گرتے (لباس) جو بچاؤ ہیں لٹرائی کا۔

كَذَلِكَ يُتَمِّنُ نِعْمَةَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

اسی طرح پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر، شاید تم حکم میں آؤ (فرمانبردار بنو)۔

.82
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمُ الْبَلْغُ الْمُبِينُ

پھر اگر پھر جائیں (منہ موڑیں) تو تیرا کام یہی ہے کھول کر شنا (پیغام) دینا۔

.83
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنِكِّرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَفِرُونَ

پہچانتے ہیں اللہ کا احسان، پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور بہت ان میں ناشکر ہیں۔

.84
وَيَوْمَ تَبَعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے (قوم) میں ایک بتانے والا (گواہ)،

۸۵۔ **ثُمَّ لَا يُؤْذِن لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ**

پھر حکم نہ ملے مکروہ کو، اور نہ ان سے توبہ مانگئے (لی جائے گی)۔

۸۶۔ **وَإِذَا رَءَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَعْذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ**

اور جب دیکھیں بے انصاف مار، پھر ہمکی نہ ہو ان سے، اور نہ ان کو ڈھیل ملے۔

۸۷۔ **وَإِذَا رَءَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا أُشْرَكَآءَهُمْ**

اور جب دیکھیں شریک پکڑنے والے اپنے شریکوں کو،

قالُوا أَرَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَآءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْمِنْدُونِكَ

بولیں، اے رب! یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا۔

۸۸۔ **فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ**

تب وہ ان پر ڈالیں بات کہ تم جھوٹے ہو۔

۸۹۔ **وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْحِسْبَانِ**

اور آپڑیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر،

۹۰۔ **وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ**

اور بھول جائے ان کو جو جھوٹ باندھتے تھے۔

۹۱۔ **الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ صَدَّلُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ**

جو منکر ہوئے ہیں، اور روکتے رہے ہیں اللہ کی راہ سے، ان کو ہم نے بڑھائی مار پر مار،

بدلہ اس کا جو شرارت کرتے تھے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ
صَلَوة

اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے (قوم) میں ایک بتانے والا (گواہ) ان پر، انہی میں کا،

وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ^ج

اور تجھ کو لائیں بتانے (گواہی) کو ان لوگوں پر۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ

اور اتاری ہم تے تجھ پر کتاب بیورا (کھول سانے والی) ہر چیز کا،

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

اور راہ کی سوجھ (ہدایت)، اور مہر (رحمت) اور خوشخبری حکمرداروں کو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى

اللہ حکم کرتا ہے انصاف کو اور بھلائی کو، اور دینے کو ناتے والے کے،

وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ^ج

اور منع کرتا ہے بے حیائی کو اور نامعقول کام کو اور سرکشی کو،

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

تم کو سمجھاتا ہے شاید تم یاد رکھو۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ

اور پورا کرو اقرار اللہ کا، جب آپس میں اقرار دو،

وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

اور نہ توڑو قسمیں پکی کئے پیچھے، اور کر کر اللہ کو اپنا ضامن۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

اللہ جانتا ہے جو کرتے ہو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَّهَا مِنْ بَعْدِ فُؤَادِهَا أَنَّكُلَّا

.92

اور نہ ہو جیسے وہ عورت کہ توڑا اپنا سوت کا تامنہ کئے پیچھے ٹکڑے ٹکڑے۔

تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَنْبَيَّاً مِنْ أُمَّةٍ

کہ ٹھہر ادا اپنی قسمیں بیٹھنے (مکروف فریب) کا ہمانہ ایک دوسرے میں،
اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو کہ زیادہ چڑھ (فائدہ حاصل کر) رہا دوسرے سے،

إِنَّمَا يَبْلُو كُمْ اللَّهُ بِهِ

تو یہ اللہ پر کھتا ہے تم کو اس سے۔

وَلَيَبْيَسَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِقُونَ

اور آگے کھول دے گا اللہ تم کو قیامت کے دن جس بات میں تم پھوٹ (اختلاف) رہے تھے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

.93

اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کرتا،

لیکن بہکاتا ہے جس کو چاہے اور سو جھاتا (ہدایت دیتا) ہے جس کو چاہے۔

وَلَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اور تم سے پوچھ ہونی ہے، جو کام تم کرتے تھے۔

وَلَا تَنْخِدُوا أَيْمَنَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِزِّلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

.94

اور نہ ٹھہراؤ اپنی فسمیں رکنے کا بہانہ ایک دوسرے سے کہ ڈگ (الٹکھڑا) نہ جائے کسی کا پاؤں جسے پیچے،

وَتَذَوْقُوا الْسُّوَءَ إِمَّا صَدَادُهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلُكْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور تم چکھو سزا اس پر کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے۔ اور تم کو بڑی مار ہو۔

وَلَا تَشْتَرُوا أَبْعَهْدِ اللَّهِ شَمَّانًا قَلِيلًا

.95

اور نہ لوالہ کے اقرار پر مول تھوڑا۔

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

بیشک جو اللہ کے ہاں ہے، وہی بہتر ہے تم کو، اگر تم جانتے ہو۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

.96

جو تم پاس ہے نہ (ختم ہو) جائے گا اور جو اللہ پاس ہے سور ہتا ہے۔

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اور ہم بدلتے میں دیں گے ٹھہرنے (صبر کرنے) والوں کا حق، بہتر کاموں پر جو کرتے تھے۔

مَنْ عَمِلَ صَدِيقًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِطَنَّهُ حَيَاةً طَلِيبَةً

.97

جس نے کیا نیک کام، مرد ہو یا عورت، اور وہ یقین پر ہے، تو اسکو ہم جلاویں (بسر کروائیں) گے اچھی زندگی۔

وَلَنَجِزِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اور بد لے میں دیں گے ان کو حق اُن کا، بہتر کاموں پر جو کرتے تھے۔

.98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الْجِيمِ

سوجب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردوں سے۔

.99 إِنَّمَا لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى مَرْبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

.100 إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

اس کا زور انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں، اور جو اسکو شریک ٹھہراتے ہیں۔

.101 وَإِذَا أَبَدَّلْنَا إِيَّاهُ مَكَانَهَا إِيَّاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ

اور جب بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں تو توہنالاتا ہے۔

بَلْ أَكُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

یوں نہیں، پران بہتوں کو خبر نہیں۔

.102 قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحُقْقِ لِيَثِّبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

تو کہہ، اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے تحقیق (حق)،

تا (کہ) ثابت (قدم) کرے ایمان والوں کو اور راہ کی سوجھ (ہدایت) اور خوشخبری مسلمانوں کو۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلَمُهُ بَشَرٌ

اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو سکھاتا ہے آدمی۔

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا السَّانُ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

جس پر تعریض کرتے ہیں اس کی زبان ہے اوپری (عجمی)، اور یہ زبان عربی صاف۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

جن کو اللہ کی باتیں یقین نہیں آتیں، ان کو اللہ را نہیں دیتا، اور ان کو دکھ کی مار ہے۔

إِنَّمَا يَقُولُونَ كَذِبٌ أَكْذِبُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

جھوٹ بناتے (بولتے) وہ ہیں جن کو یقین نہیں اللہ کی باتوں پر۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ

جو کوئی منکر ہوا اللہ سے یقین لائے پچھے، مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی اور اسکا دل برقرار رہے ایمان پر،

وَلَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا، سوان پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کو بری مار ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَسْتَحْبُّوْ أَحْيَاءَ الْأَنْيَاءَ عَلَى الْأَخْرَةِ

یہ اس واسطے، کہ انہوں نے عزیز رکھی دنیا کی زندگی آخرت سے،

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفَرِينَ

اور اللہ راہ (ہدایت) نہیں دیتا مکر لوگوں کو۔

ص

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ

وہی ہیں، کہ مُہر کر دی اللہ نے انکے دل پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر۔

.108

وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

اور وہی ہیں بیہوش (غفلت میں)۔

لَا جَرَمَ أَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْحَسِرُونَ

آپ ہی ثابت ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں۔

.109

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فِتْنَوْا

پھریوں ہے کہ تیر ارب ان لوگوں پر کہ وطن چھوڑا ہے بعد اسکے کہ بچلانے (آزمائے) گئے،

ثُمَّ جَهَدُوا وَصَابَرُوا

پھر لڑتے رہے اور ٹھہرے (ثبت قدم) رہے،

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا الْغُفُورُ شَّرِيمٌ

(بیشک) تیر ارب ان باتوں کے بعد بخششے والا مہربان ہے۔

.110

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِنِجَالٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

جس دن آئے گا ہرجی (تنفس) جواب سوال کرتا اپنی طرف سے، اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا،

اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

.111

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيرًا

اور بتائی اللہ نے کہا تو،

كَانَتْ إِيمَنَةً مُطْمِئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

ایک بستی تھی، چین امن سے چلی آتی تھی اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے،

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ

پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی،

فَأَذْقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ أَجْوَعٍ وَأَلْحَوْفَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

پھر چکھایا اس کو اللہ نے مزہ کہ انکے تن کے کپڑے ہوئے بھوک اور ڈر، بدله اس کا جو کرتے تھے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ كَذَّابُ الْعَذَابِ وَهُمْ ظَلِيلُهُمْ

اور ان کو پہنچ چکار رسول انہی میں کا، پھر اس کو جھٹلایا، پھر کپڑا ان کو عذاب نے، اور وہ گنہگار (ظالم) تھے۔

فَلَمُّا أَمْرَأَ زَقَ كُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا

سو کھاؤ، جو روزی دی تم کو اللہ نے، حلال اور پاک۔

وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ

اور شکر کرو اللہ کے احسان کا، اگر تم اس کو پوچھتے ہو۔

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمُنْيَةَ وَاللَّدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

یہی حرام کیا ہے تم پر مردہ اور لہو اور سور کا گوشت، اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوائے کسی کا۔

فَمَنِ اُخْسِرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

پھر جو کوئی ناچار (محجور) ہو جائے نہ زور (سرکشی) کرتا ہونے زیادتی، تو اللہ بخششے والا مہربان ہے۔

وَلَا تَقُولُوا إِلَمَا تَصِيفُ الْسِّنَّةُ كُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلْلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتُفْتَرُوا أَعْلَى اللَّهِ الْكَذِبِ^ج .116

اور مت کہوا پنی زبانوں کے جھوٹ بتانے سے، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔

إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُونَ

بیشک جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، بھلا (فلاح) نہیں پاتے۔

مَتَّعْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

تحوڑا سابر ت (فائدہ اٹھا) یہ اور ان کو دکھ کی مار ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا أَحَرَّ مِنَّا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلٍ^ح .118

اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کیا تھا جو تجھ کو سنا چکے پہلے۔

وَمَا أَظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، پر اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا أَلْسُوَاءِ بِهَلَةٍ ثُمَّ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا^ح .119

پھریوں ہے کہ تیرا رب اُن لوگوں پر جنہوں نے بُرائی کی نادانی سے،

پھر توبہ کی اسکے پیچھے (بعد)، اور سنوار پکڑی،

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغُفُورٌ رَّحِيمٌ

تیر ارب ان با توں (توبہ) کے پیچے (بعد) بخششے والا مہربان ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاتِلَةً لِلَّهِ حَنِيفًا

اصل ابراہیم تھاراہ ڈالنے والا، حکم بردار اللہ کا، ایک طرف کا ہو کر۔

وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور نہ تھا شریک والا وہ میں۔

شَاكِرًا لِلنِّعْمَةِ

حق ماننے والا اسکے احسانوں کا،

أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اس کو اللہ نے چین لیا، اور چلا یا سیدھی راہ پر۔

وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

اور دی دنیا میں ہم نے اس کو خوبی (بجلائی)۔

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں (صالحین) میں ہے۔

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

پھر حکم بھیجا ہم نے تجوہ کو کہ چل دین ابراہیم پر، جو ایک طرف کا تھا۔

.120

.121

.122

.123

وَمَا كَانَ مِنْ أُمُّ شَرِّكِينَ

اور نہ تھا شریک والوں میں۔

^ج
إِنَّمَا جَعَلَ الْسَّبِيلَ عَلَى الْدِينِ أَخْتَلَفُوا فِيهِ

ہفتہ کا دن جو ٹھہر ایا، سوانحیں پر جو اس میں بہوت (اختلاف میں پڑ) گئے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

اور تیرارب حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن، جس بات میں بہوت (اختلاف کر رہے) رہے تھے۔

^{صل}
أَذْعُ إِلَيْ سَبِيلٍ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَأَمْوَاعَ الْحَسَنَةِ

جلہ اپنے رب کی راہ پر، کی باتیں سمجھا کر، اور نصیحت کر کر بھلی طرح،

^ج
وَجَدِ لَهُمْ بِالْأَنْتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور الزام دے ان کو (مباحثہ کر ان سے) جس طرح بہتر ہو۔

^{صل}
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأُمُّهُتَدِينَ

تیرارب بہتر جانتا ہے، جو بھولا اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانے جو راہ (ہدایت) پر ہیں۔

^{صل}
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقِبْتُمْ بِهِ

اور اگر بد لہ دو (لو)، تبدلہ دو (لو) اس قدر جتنی تم کو تکلیف پہنچی،

وَلِئِنْ صَدَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر والوں کو۔

.124

.125

وَاصْبِرْ وَمَا صَبُرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے،

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ لِمَا يَمْكُرُونَ

اور ان پر غم نہ کھا، اور مت خفارہ ان کے فریب سے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ أَتَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ لَهُ سُبُّونَ

اللہ ساتھ ہے اُنکے جو پر ہیز گار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com